
نکاتِ جفر

مُصنّفہ

ڈاکٹر شاد گیلانی ماہر علوم فلکیات

شورکوٹ شہر



ناشرین

ملک سراج الدین اینڈ سنز

48/C لوئر مال، لاہور

باراول	ماہ ستمبر ۱۹۷۶ء	۲۰۰۰
باردوئم	ماہ جون ۲۰۱۱ء	۱۰۰۰

قیمت ۱۰۰ روپے

طابع ایاز احمد ملک

مطبع ایس ایم پی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

مقام اشاعت ملک سراج الدین اینڈ سنز

48/C لوئر مال، لاہور

عِلمِ جَفر

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا و مولا حضرت علی علیہ السلام کو ایک ہزار علوم تعلیم فرمائے اور پھر ہر علم سے ایک ایک ہزار علوم اور تعلیم فرمائے۔ ان بے شمار و لاتعداد علوم الہیہ میں سے جو حضرت علی علیہ السلام کو تعلیم دیے گئے ایک علم **جفر** بھی ہے۔

علم جفر بذاتہ ایک سمندر ہے جس کی انتہا تک پہنچنا انسانی قوت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لامنتہی سمندر میں سے کسی کو اگر ایک قطرہ بھی حاصل ہو گیا تو وہی انسانیت سے کچھ بلند ہو گیا اور دنیا ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح اس کے سامنے گردش کرنے لگی۔

میری جان لاکھوں بار قربان اس ذات مقدس پر! .... کہ علم کے ایسے لاکھوں بحر او قیانوس جس کے دماغ کی پیداوار ہیں علم جفر کی بہت سی اقسام ہیں۔ جفر مکشفہ۔ عالیہ۔ ملقفہ۔ ملغائرہ۔ منشرفہ۔ منطقہ۔ ناعزہ۔ احمر۔ خاربہ۔ عرشنہ۔ منتظرہ۔ المظہہ۔ مخترعہ۔ والصدلہ نشیرفا۔ دافنہ۔


ابتدائی ابجدیں دو (۲) ہیں۔ شمسی اور قمری۔ شمسی ابجد سے ۲۷ ابجدیں
اور اختراع کی گئیں اور اسی طرح قمری ابجد سے بھی ۲۷ ابجدیں اور
نکالی گئیں۔ اور ان ستائیس ستائیس ابجدوں میں سے پھر ۲۷-۲۷
اور ابجدیں اور نکالی گئیں۔ یعنی شمسی ابجد سے ۲۷×۲۷×۲۷ ابجدیں
نکالی گئیں۔ اور اسی طرح قمری سے بھی ۲۷×۲۷×۲۷ ابجدیں پیدا
کی گئیں۔ اب شمسی و قمری ابجدیں ساڑھے چودہ سو (۱۴۵۰) کے قریب
ہیں۔ یعنی ہر ایک جفر ساڑھے چودہ سو طریق مستعملہ رکھتا ہے ۔

حصہ انتخاب یعنی مستحصلاتِ خبریہ

قاعدۂ

بدوح بلن

علمِ جفر کا ایک مشہور قاعدۂ مستحصلہ



مستحصلہ بدوح بلین

جو میرے ناقص دماغ نے کمال محنت سے حل کیا ہے

اپنے بھائیوں کے لیے جفر کا ایک عظیم ترین قاعدہ مستحصلہ بدوح بلین کا حل پیش کر رہا ہوں۔ پاکستان بھر میں صرف چند افراد ہی اس کو حل کر سکتے ہیں۔ جن میں سے ایک ناچیز بھی ہے۔ میں نے عام کتابوں میں نہایت مبہم الفاظ میں اس قاعدہ کو پڑھا اور دو تین سال کی محنت کثیر کے بعد انتہائی دماغ سوزی سے حل کیا۔

حقیقت ہی یہی ہے کہ جس شخص پر خدا کی رحمت شامل حال ہو وہی اس قاعدہ کو حل کر سکتا ہے۔ ہزاروں قابل ترین جفار اس کے حل کرنے سے عاری ہیں۔

اس قاعدہ سے ہر سوال کا جواب حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جس زبان میں سوال کیا جائے گا اسی زبان میں جواب ملے گا۔ اور خود ذات امیر المومنین

علیہ السلام سوال کا جواب مرحمت فرماتی ہے۔ یہ ایک علم غیب ہے اور جس پر خدا کی عنایت ہو اسی کو حاصل ہوتا ہے۔ میرے بچوں کو اس امر پر بجا طور پر ناز کرنا چاہیے کہ ہیں نے اس عظیم نعمت کو حاصل کر لیا ہے اور مستقصلہ کو حل کر لیا ہے۔ اس قاعدہ کو غور سے پڑھو۔ سمجھو اور حل کر کے جواب دیا کرو۔ مگر خدا کو عالم الغیب سمجھنا ایمان مستحکم رکھنا۔ نماز سے غافل نہ ہونا ضروری ہے۔ اور اس قاعدہ کو کسی دوسرے آدمی پر ظاہر نہ کرنا جان برابر رکھنا۔ منفخر نہ ہونا۔

اب سُنیے !

سوال آسان لفظوں میں لکھو۔ بہتر ہے کہ زبان فارسی میں عبارت بناؤ۔ مگر سائل کا نام مع اس کی والدہ کے نام کے لکھنا ضروری ہے۔

مثلاً یا علیم محمد بن رحمت ایں کار کند یا نہ ؟

سوال سے پہلے یا علیم لکھنا اشد ضروری ہے۔

اب اس سوال کو بسط حرفی میں لکھو۔ بسط حرفی کہتے ہیں کہ ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھیں۔ مثلاً

ی ا ع ل ی م م ح م د ب ن ر ح م ت ا ی ن

ک ا ر ک ن د ی ا ن ہ

اب ابجد قمری کے لحاظ سے ہر حرف کے عدد نکال کر تمام اعداد

جمع کرو۔ مثلاً ابجد قمری یہ ہے :۔

حرف	ا	ب	ج	د	ھ	و	ز	ح	ط	ی	ک	ل	م	ن
عدد	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰
حرف	س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ
عدد	۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰

اب اعداد کے مجموعہ میں طالع وقت۔ تاریخ قمری (جس میں سوال حل کر رہے ہو) مہینہ عربی قمری اور سنہ ہجری کے اعداد جمع کرو۔ مثلاً مہینہ شعبان کا ہے تو آٹھواں مہینہ ہے اس لیے ۸ عدد اس کے ہوئے ۱۵ تاریخ چاند کی ہے جس روز سوال حل کر رہے ہو تو ۱۵ اعداد اس کے ہوئے۔ سن ہجری مثلاً ۱۳۷۷ ہے۔

طالع وقت حل کرنے کا قاعدہ یہ ہے :۔

کہ بارہ برج ہیں۔ ہر برج میں ایک مہینہ سورج رہتا ہے۔ جنتری میں سے سمت شاکھا کا کالم دیکھ کر آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آج سورج اس برج میں اتنے درجہ پر ہے۔

جنتری میں سے دیکھیں کہ سوال کرنے کے روز کتنے بجے طلوع ہوا ہوا ہے۔ وہ لکھ لو۔ اور جس وقت آپ سوال حل کر رہے ہیں وہ وقت لکھ لو ان دونوں کا فرق معلوم کر لو کہ دن چڑھنے سے اب کتنے گھنٹے اور کتنے

منٹ گزر چکے ہیں۔

اس وقفہ کے منٹ بنا لو۔ اور جو منٹ حاصل ہوں اسے ۲۴ پہ تقسیم کر دو۔ جو حاصل قسمت آئے اُسے ۶ سے ضرب دے دو جو حاصل ضرب آئے اُس میں وہ درجہ بُرج کا شامل کر لیں۔ جس درجہ میں آج سورج ہے۔ حاصل جمع لکھ لو۔

اب دیکھو کر سورج کس بُرج میں ہے۔ اس بُرج سے ۳۰۔ ۳۰، درجہ اس سے آگے ہر برج کو دیتے جائیں۔ اور طالع وقت معلوم کر لیں۔

مثال :-

سُورج آج برج حوت کے ۱۶ درجہ پر ہے اور جس وقت سائل نے مجھے سوال حل کرنے کو کہا اس وقت دن کے ۳۰ منٹ ۱۰ بجے تھے دن ۳۰ منٹ ۶ پر طلوع ہوا۔ طلوع شمس سے اس وقت تک پورے ۴ گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ۴ × ۶۰ = ۲۴۰ منٹ

حاصل ہوئے ۲۴۰ ÷ ۲۴ = ۱۰ ——— ۱۰ × ۶ = ۶۰

۶۰ + ۱۶ درجہ = ۷۶

اب سورج بُرج حوت میں ہے۔ ۳۰ درجے حوت کے۔ ۳۰ درجے حمل کے باقی ۱۶ درجے بچے۔ معلوم ہوا کہ اب

طالع وقت ۱۶ درجہ ثور ہے

اب اصل مقصد کی طرف آیئے یہ تمام عبارت طالع وقت نکالنے کے لیے لکھی گئی۔ جو مستحصلہ کا ایک خاص حصہ ہے اب اعداد مندرجہ کو جمع کیا۔ سوال کے اعداد جو ایک قمری سے حاصل ہوئے۔

مثال کے طور پر ۱۲۰۰ اعداد آئے

طالع وقت ثور کے اعداد ۶۰۶

قمری تاریخ سوال جس

روز حل کر رہے ہو ۱۵ شعبان

مہینہ قمری شعبان ۸

ہجری ۱۳۷۷

کل میزان ۳۳۰۶ اعداد

اب ان حاصل شدہ اعداد کو ملفوظی لکھو۔

ملفوظی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بولے جاتے ہیں اسی انداز میں لکھو۔ آپ ۳۳۰۶ کو سمجھ لو۔ ۶ کے و۔ ۳۰۰ کے ش۔ ۳ ہزار کے ج غ۔ صرف ہزار آئے تو غ اور تین ہزار ہے اس لیے ج غ۔ اسی طرح اگر ۴ ہزار ہوئے تو د غ۔ ۵ ہزار ہوئے تو ھ غ۔ اب ملفوظی لکھو۔

۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
ن	ی	غ	م	ی	ج	ن	ی	ش	ا	ا	و

کل اعداد صرف ۱۲ ہیں - اس لئے اس سطر کے آگے ۱۲ کے حروف (ب ی) آگے لکھو - اب اس سطر کے نقاط گنو - ش کے ۳ نقاط - ی کے ۲ نقاط - ن کا ایک نقطہ - اسی طرح ج - ی - غ - ی - ن کے مجملہ نقاط ۱۳ ہوئے - اب ۱۳ کو آپ ج ی لکھیں گے - اب تمام سطر مکمل لکھو -

و ا د - ش ی ن ج ی م - غ ی ن ب ی - ج ی

گویا حروف کل ۱۶ حاصل ہوئے - اس سطر کو سطر اساس کہتے ہیں - اب اس کو نظیرہ دے دو - ابجد قمری میں جو حرف مقابل کا ہو وہ اس کا نظیرہ ہے -

ا ب ج د ھ و ز ح ط ی ک ل م ن

س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ

مثلاً س کا نظیرہ آ - اور ا کا نظیرہ س - د کا نظیرہ ص - اور ص کا نظیرہ د - اب سطر مذکورہ کا نظیرہ یہ ہوا -

اساس	و ا د ش ی ن ج ی م غ ی ن ب ی ج ی
نظیرہ	ر س ر ز خ غ ف خ ظ ن خ ر غ غ خ ف خ

اب نظیرہ کے ہر حرف کو دیکھو کہ کون سی قسم ہے -

دائرہ بدوح یلن کے لحاظ سے ابجد قمری کے ۲۸ حروف ۴ اقسام میں ہیں - ترفع - تنزل - ترقی - مساوات : ہر قسم میں ۷ - ۷

حروف ترقی	ع	ص	ر	ت	خ	ض	غ
اعداد	۱۴	۱۸	۴	۸	۱۲	۱۶	۲
حروف مساوات	ا	ج	ہ	ز	ط	ک	م
اعداد	۲	[illegible]	۱۰	۱۴	۱۸	۴۰	۸۰
حروف ترفع	ب	د	و	ح	ی	ل	ن
اعداد	۴	۶	۸	۱۰	۲۰	۵۰	۷۰
حروف تنزل	س	ف	ق	ش	ث	ذ	ظ
اعداد	۳	۴	۲	۳	۴	۵	۶

سطر نظیرہ کے نیچے ہر حرف کی قسم اور اس کے نیچے اُس کے اعداد لکھو۔ مثلاً

اساس	ج	ن	د	ق	ع
نظیرہ	ف	غ	ص	ھ	ب
قسم	تنزل	ترقی	ترقی	مساوات	ترفع
عدد	۴	۲	۱۸	۱۰	۴

اب اس سطر کے نیچے ربع خانہ لکھو۔ ربع خانہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہندسے کے نیچے ا۔ دوسرے کے نیچے ۲ تیسرے کے نیچے ۳ چوتھے کے نیچے ۴

اس سے اگلے ۴ حروف کے نیچے ۲-۲-۲-۲ - ان سے اگلے ۴ حروف کے نیچے ۳-۳-۳-۳-

اساس	ف	غ	ص	ھ	ب	ن	ا	ج	ل	ص
نظیرہ قسم عدد	ج مساوات ۶	ن ترفع ۷	ترفع ۶	ق تنزل ۲	ع ترقی ۱۴	غ ترقی ۲	س تنزل ۳	ف تنزل ۴	ض ترقی ۱۶	د ترفع ۶
ربع	۱	۲	۲	۴	۲	۲	۲	۲	۳	۳
قانون	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳

اس خانہ ربع کے نیچے قانون کے ۳-۳ عدد ہر حرف کے نیچے لکھتے چلے جاویں - اب سطر عشرہ زائد العشر آئے گی اسے غور سے سنیے - مثلاً سطر اساس میں ۱۶ حروف ہیں - تو پہلے حرف کے نیچے ۶ - دوسرے کے نیچے ۵ - تیسرے کے نیچے ۴ - اور اسی طرح ۳-۲-۱- اور اس کے بعد ۱۰ حروف تک .... لکھتے رہیں - اگر دس کے اندر حروف ہوں تو پھر سطر عشر لکھنے کی ضرورت نہیں -

مثلاً

	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
	ج	ن	د	ق	ع	غ	س	ت	ض	د	ل	م	ن	و	ہ	ی
سطر عشر	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲	۲	۲	۲

اب دو سطریں باقی ہیں سطر تکرار حرف اور سطر تکرار قسم۔

تکرار حرف :- یعنی اگر حرف سطر نظیرہ مفرد ہے اور اس سطر میں اس کی طرح کا اور کوئی حرف نہیں آیا۔ مثلاً ج ساری سطر نظیرہ میں ایک ہے۔ تو اس حرف مفرد کے نیچے آ کا ہندسہ لکھ دیں۔

اور اگر حرف مذکورہ مکرر کسی اور مقام پر آیا ہوا ہو تو پہلے کے نیچے صفر اور دوسرے کے نیچے ۲ لکھ دیں۔ اب مندرجہ ذیل سطر سے تفصیل معلوم کریں اور غور سے ملاحظہ کریں۔

سطر نظیرہ	س	ص	ن	ج	س	ق	د	ق	ٹ	س
سطر تکرار حرف	۰	۲	۰	۱	۳	۰	۱	[illegible]	۲	۴

اسی طرح تکرار قسم کی سطر ہے۔

یعنی اگر ایک قسم کا لفظ کئی جگہ آیا ہے تو پہلے کے نیچے صفر دوسرے کے نیچے ۲ تیسرے کے نیچے ۳ چوتھے کے نیچے ۴۔ چار کے بعد اگر پانچواں حرف بھی آجائے تو صفر لکھ دیں۔ مثال دیکھیے؛

تکرار قسم	ن ترفع	س تنزل	ك مساوات	ق تنزل	ج مساوات	ش تنزل	ل ترفع	ن ترفع	ک تنزل	ج مساوات	ف تنزل	ذ تنزل
	۰	۰	۰	۲	۲	۳	۲	۳	۴	۳	۰	۱ آخر

پھر ان سب کا علیحدہ علیحدہ میزان کریں۔ ہر حرف کے نیچے علیحدہ علیحدہ میزان کر کے اکائی (احاد) کا عدد رہنے دیں۔ اور اس کا حرف بنا دیں اور پھر اس کا نظیرہ دے دیں۔ اور اسی طرح سب حرف بنا کر صدر موخر کریں۔ صدر موخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف بائیں ہاتھ سے اور ایک دائیں ہاتھ سے لیتے جاویں۔ اور اسی طرح تا آخر۔ حتیٰ کہ سطر کے سب حروف صدر موخر ہو جاویں۔

مثال

اساس	ن	ص ٢	ج ٣	ق ٤	ث ٥	ذ ٦
نظیرہ	ع	د	ف	ھ	ح	ص
قسم حرف	ترقی	ترفع	تنزل	مساوات	مساوات	ترقی
عدد	٢	٦	٤	١٠	٦	١٨
ربع	١	٢	٣	٤	٢	٢
قانون	٣	٣	٣	٣	٣	٣
تکرار حرف	١	١	١	١	١	١
تکرار قسم	٠	١	١	٠	٢	٢
میزان	٧	١٣	١٢	١٨	١٤	٢٦
حرف	ع	ج	س	ح	د	س
نظیرہ	ب	ف	و	ت	ص	ط
صدر موخر	و	ب	ص	ف	ت	ر

آسان قاعدہ مستحصلہ

سوال کو بسط حرفی میں لکھو۔ یعنی ہر حرف کو جداگانہ تحریر کریں اور جو حرف مکرر آئے ہوں ان کو کاٹ کر حروف خالص کو رہنے دیں۔

اب طالع وقت معلوم کریں۔ جون سا برج طلوع ہو رہا ہو اس کو لکھ لیں۔ پھر تاریخ سوال کو حرفوں میں لکھیں۔ مثلاً ۲۸ تاریخ قمری ہے تو ح ک لکھو۔

پھر مہینہ قمری بسط حرفی میں لکھو۔ پھر سنہ ہجری کے حروف بنا کر لکھو۔ اور دوبارہ تخلیص کرو۔


اب ایک سطر آپ کے پاس آگئی ہے۔ اس سطر کو تا زمام صدر موخر کرتے چلے جائیں۔ حتیٰ کہ پہلی سطر پھر آجائے۔

ان تمام سطور میں اوپر نیچے۔ دائیں بائیں معلوماً منسوباً حروف جواب کو معلوم کریں۔ انشاء اللہ خاطر خواہ حروفِ جواب حاصل ہوں گے۔

مستحصلہ جفر کا ایک عظیم قاعدہ "ابوطالبی" ہے قاعدہ ہذا ایک جامع ترین قاعدہ ہے۔ پندرہ سطور میں جا کر

ناطق ہوتا ہے۔اس کی سطور درج ذیل ہیں :۔
(۱) اساس (۲) نظیرہ (۳) نسبت اساس (۴) نسبت نظیرہ
(۵) تمتہ اساسین (۶) نسبت اساس و نظیرہ (۷) عکس۔
(۸) تعدیل (۹) تعدیل در تعدیل (۱۰) حروف دور (۱۱) حروف
نوری (۱۲) سطر مستحضرہ (۱۳) سطر مستقصلہ (۱۴) نظیرہ اور
پندرھویں سطر صدر موخر جواب۔

نیاز آگین
شاد گیلانی
شورکوٹ شہر



م س ت ح ص ل ہ

قاعدہ

حضرت امام رضا علیہ الصلوٰۃ والسلام

حل کردہ

شاد گیلانی



آدابِ سوال

ایک تختۂ کاغذ پر جیلے بسم اللہ شریف لکھیے اور پھر نیچے
یا امیر المومنین لکھیے اس کے نیچے سوال یعنی مطلب فلاں -
سائل فلان - بروز فلاں - تاریخ قمری سنہ ہجری لکھیے -

ھدایت

ہمیشہ الفاظ سوال سلیس اور عبارت واضح اور مفصل ہو تاکہ
جواب بھی سلیس آسان لفظوں میں بر آمد ہوگا - جواب بر عکس
مہمل مجمل مستخرج ہوگا - جس زبان میں سوال کیا گیا ہو اسی زبان
میں حصول جواب کی سعی کرنا چاہیے -

تنبیہ

جھوٹ تصنع اور جلدی جواب نکالنے میں ہرگز کوشاں نہ
ہو ورنہ اسرار ربوبیت سے نادم ہوگا اور محروم رہے گا -

(صفحہ ۲۶ ملاحظہ ہو)

ابجدیں

ابجد قمری

ا	ب	ج	د	ه	و	ز	ح	ط	ی	ک	ل	م	ن
س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ

ابجد ابتث

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص
ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ک	ل	م	ن	و	ہ	ی

ابجد اہطم

ا	ہ	ط	م	ف	ش	ذ	ب	و	ی	ن	ص	ت	ض
ج	ز	ک	س	ق	ث	ط	د	ح	ل	ع	ر	خ	غ

ابجد اجذش

ا	ج	ذ	ش	ظ	ق	ن	ب	ح	د	ض	ع	ک	ی
ت	خ	ز	ض	غ	ل	ه	ث	د	س	ط	ف	م	ی

ابجد ارثی

ا	ر	غ	ی	ب	ز	ف	ت	س	ق	ث	ش	ک	ج
ص	ل	ح	ض	م	خ	ط	ن	د	ظ	و	ذ	ع	ه

ابجد القغ

ا	ی	ق	غ	ب	ک	ر	ج	ل	ش	د	م	ت	ه
ن	ث	و	س	خ	ز	ع	ذ	ح	ف	ض	ط	ص	ظ

ابجد انگریزی ابث

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
۵۰	۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰

ابجد انگریزی اے ای آئی


A	E	I	M	Q	U	Y	B	F	J	N	R	VZ
C	G	K	O	S	W	·	D	H	L	P	T	X

ابجد احبس   مراتب احبس

1		2		3		4		5		6		7		8		9	
A	1	B	2	D	۴	E	۵	C	۳	F	۶	G	۷	H	۸	9	۹
J	۱۰	K	20	M	۴۰	N	۵۰	L	۵۰	O	۶۰	P	۷۰	Q	۸۰	R	۹۰
S	100	T	200	V	۳۰۰	W	۴۰۰	W	۵۰۰	X	۶۰۰	Y	۷۰۰	Z	۸۰۰		

مراتب ایقغ

۹		۸		۷		۶		۵		۴		۳		۲		۱	
۹	ط	۸	ح	۷	ز	۶	و	۵	ہ	۴	د	۳	ج	۲	ب	۱	ا
۹۰	ص	۸۰	ف	۷۰	ع	۶۰	س	۵۰	ن	۴۰	م	۳۰	ل	۲۰	ک	۱۰	ی
۱۰۰	ظ	۸۰۰	ض	۷۰۰	ذ	۶۰۰	خ	۵۰۰	ث	۴۰۰	ت	۳۰۰	ش	۲۰۰	ر	۱۰۰	ق
																۱۰۰۰	غ



باب ترفع تنزل

آداب ترفع تنزل عددی ہیں

ترفع کے معنی بلند ہونا ہیں - چونکہ حرف کو اپنے مرتبہ سے اعلیٰ کیا جاتا ہے - جیسے الف سے با - با سے ق - ق سے غ -

اسی طرح انگریزی میں A سے B - B سے C -

اور اس کے برعکس کو تنزل کہتے ہیں - یعنی غ سے ق - ق سے ی - ی سے الف اور اسی طرح انگریزی میں اور ابجد میں ایقغ اور اجس کے ذریعہ تنزل ترفع دیکھ لیں -

آداب طرحات

آداب طرحات سبعہ ہیں -

علمائے جفر نے طرحات کو رکن اعظم اور ضروری جفر گردانا ہے اور طرحات ۷ قسم ہیں - ۳-۳-۴-۴-۷-۷-۹-۹ ۱۲-۱۲ - ۲۸-۲۸ - ۳۰ - ۳۰ کی طرح ان طرحات سے نقشہ حروف تکسیب سے الفاظ مستفسرہ لیے جاتے ہیں۔

آداب تعکیب

تعکیب اصطلاح جفر میں ایک حرف کو درجۂ آخر ابجد تک ترفع کرنے کو کہتے ہیں یعنی ترفع حرفی کرنا۔ مثلاً الف سے ب۔ ب سے جیم۔ جیم سے دال تا غین۔ اور اسی طرح انگریزی میں A سے B۔ B سے C وغیرہ۔

فائدہ

تعکیب حسب ضرورت یا حسب مرضی ہر ایک ابجد پر کی جاتی ہے۔

آداب مستحصلہ

واضح ہو کہ ہر ایک حرف بذات خاص رقابت استنطاق رکھیگا دیگر صورت وہ حرف طالب مطلوب اعلیٰ ہوگا یا ادنیٰ۔ بہر دو صورت دونوں مطلوب میں سے جو قابلیت استنطاق رکھے گا۔ وہ مطلوب طالب قرار پائے گا۔

چنانچہ ب بلحاظ ابجد ابقغ طالب ہے۔ مطلوب ک۔ر ہے انگریزی میں B طالب J. K مطلوب۔ بلحاظ نظیرہ ابجد ابجس ب طالب ع مطلوب اور B طالب O مطلوب۔

اور

مطلوب المطلوب ع کا ز ذ اور مطلوب المطلوب O کا F Z

علی ہذاالقیاس ک اور K . J اور ہی دیگر نظائر ہیں ہر

حرف طالب مطلوب ہوگا۔

آداب حروف عناصر اربعہ ہیں

واضح ہو کہ ابجد قمری ۴ حصص مساوی پر منقسم ہے۔ آتش

باد آب اور خاک - اس طرح پر کہ پہلا حرف آتش دوسرا

حرف باد - تیسرا حرف آب چوتھا حرف خاک کا ہے -

پھر ہر ایک عنصر کا حرف منسوب بہ مرتبہ درجہ و دقیقہ و ثانیہ

و ثالثہ و رابعہ و خامسہ ہے۔

پھر اسی طرح ہر ایک حرف منسوب بہ کواکب سبعہ ہے اور ہر

ایک کواکب کے واسطے ۴-۴- حروف مقرر ہیں - اوتاد جیسے

اوتد- ب مائل وتد ج زائل وتد انگریزی میں a وتد - b مائل

وتد c زائل وتد- علی ہذاالقیاس غین تک اور Z تک

پھر عنصر کے حروف بھی بطریق وتد مائل وتد زائل وتد ہیں

مثلاً ا وتد - ھ مائل وتد ط زائل وتد-

اور اسی طرح a وتد ع مائل وتد ک زائل وتد -

مرا	آتش	باد	آب	خاک	کواکب	خاک	آب	باد	آتش	مراتب
مر	a	b	c	d	زحل	د	ج	ب	ا	مرتبه
در	e	f	g	h	مشتری	ح	ز	و	ه	درجه
دقی	i	j	K	L	مریخ	ل	ک	ی	ط	دقیقه
ثا	M	N	O	P	شمس	ع	س	ن	م	ثانیه
ثال	Q	R	S	T	زهره	ر	ق	ص	ف	ثالثه
راب	u	V	W	X	عطارد	خ	ث	ت	ش	رابعه
خام	y	Z			قمر	غ	ظ	ض	ذ	خامسه

نقشہ اوتاد ابجد

وتد	مائل وتد	زائل وتد
ا	ب	ج
د	ه	و
ز	ح	ط
ی	ک	ل
م	ن	س
ع	ف	ص
ق	ر	ش
ت	ث	خ
ذ غ	ض	ط

نقشہ اوتاد ابجد انگریزی

وتد	مائل وتد	زائل
A	B	C
D	E	F
G	H	I
J	K	L
M	N	O
P	Q	R
S	T	U
V	W	X
Y	Z	

اوتادِ آتش

وتد	مائل وتد	زائل وتد
ا م ذ	ه ف	ط ش

اوتاد آتش


وتد	مائل وتد	زائل وتد
A M Y	E Q	i u

اوتاد باد			اوتاد باد		
وتد	مائل وتد	زائل وتد	زائل وتد	مائل وتد	وتد
B N Z	F R	J V	ی ت	و ض	ب ن ص

اوتاد آب			اوتاد آب		
وتد	مائل	زائل	زائل	مائل	وتد
C O	G S	K W	ک ث	ز ق	ج س ظ

اوتاد خاک			اوتاد خاک		
وتد	مائل	زائل	زائل	مائل	وتد
D P	H T	B X	ل خ	ح ر	د ع غ

نقشہ نظرات کواکب



پھر باہم نظرات حروف پر غور کرنا چاہیے۔

مثلاً مقارنہ و تسدیس و تربیع و تثلیث بمعیت نظرات کواکب حروف و ہیئت جفر جامع وغیرہ۔ پس بایں ہمہ شرائط جو فال نکلے گا وہ خطا نہ کرے گا اور حکم نص قطعی ہو گا۔

آداب سوال

سوال کے حروف جدا جدا لکھ کر ان میں سے حروف آتشی، بادی، آبی، خاکی علیحدہ علیحدہ لکھیں اور ان کے جدا جدا اعداد جمع کریں۔ آتشی بادی آبی خاکی کے علیحدہ علیحدہ !

ان کو علیحدہ علیحدہ ۲۸-۲۸ اور انگریزی کو ۲۶-۲۶ پر تقسیم کریں۔ جو کسر بچیں۔ بموجب ان کے شمار کے ابجد عربی یا انگریزی سے حروف لے لیں۔ مثلاً اگر کسر ۱۳ بچے تو ابجد قمری سے م لے لیں۔

اس طرح چار حروف پیدا کریں گویا ایک خانہ جفر جامع کا آپ کو حاصل ہو گیا۔ پھر اس کو جس ابجد پر چاہو تکسیب دو اور جس طرح میں سے پسند کرو طرح دے کر حروف مستحفزہ حاصل کرو۔ پھر حروف مطروحات مستحفزہ کو بطریق مستحصلہ جس طرح پر چاہو طرح کر کے ایک دو نظائر سے بطریق مستحصلہ جواب دے دو۔ نہایت اعلیٰ جواب برآمد ہو گا۔ جو سلیس الفاظ میں صاف صاف جواب ہو گا۔

فائدہ :۔ اگر سوال میں ۳ عناصر کے حروف ہوں اور چوتھے کا کوئی حرف نہ ہو۔ تو ہر سہ عناصر کے اعداد کو جمع کر کے ۲۸ پر یا ۲۶ پر تقسیم کریں اور چوتھا حرف پیدا کریں۔ تاکہ ایک بیت جفر جامع کا پورا حاصل ہو جائے۔

مثال :

السائل برکت علی بن مولوی غلام حسن بیسئل عمّا

ان اصغیر غُنیاً - - - .. یوم الثانی ۸ من ربیع الثانی ۱۳۶۵ھ

منفرد حروف

ال س ای ل ب ر ک ست ع ل ی ب ا ن م د ل د ی غ

ل ام ح س ن ی س ل ع م اا ف ع ل ان اص غ ی ر

ع ن ی ای وم ال ث ان ی ح م ن ر ب ی ع ال ثان ی

ہ ش غ

ان حروف کو ہر چہار عناصر پر تقسیم کیا۔ نقشہ یہ ہے :-

حروف	ا	ھ	ط	م	ف	ش	ذ	حروف	ب	د	ی	ن	ص	ت	ض
	آتش								باد						
	۱۳	۲	×	۵	۱	۱	×		۳	۳	۱۱	۸	۱	۱	×
عدد	۱۳	۱۰	×	۲۰۰	۸۰	۳۰۰	×	عدد	۶	۱۸	۱۱۰	۴۰۰	۹۰	۴۰۰	×

حروف	ج	ز	ک	س	ق	ث	ظ	حروف	د	ج	ل	ع	ر	خ	غ
	آب								خاک						
	×	×	۱	۴	×	۲	×		×	×	۹	۴	۳	×	۳
عدد	×	×	۲۰	۲۴۰	×	۱۰۰۰	×	عدد	×	×	۲۷۰	۲۸۰	۶۰۰	×	۳۰۰

اعداد آتش ۶۰۳ ÷ ۲۸ باقی ۱۶ حرف ہیں

اعداد باد ۱۰۲۴ ÷ ۲۸ باقی ۱۷ حرف ہیں

اعداد آب، ۱۲۶۰ ÷ ۲۸ پورا تقسیم حرف غ

اعداد خاک ۴۱۶۶ ÷ ۲۸ حرف ت

ان چار حروف میں ع غ ت کو ابجد قمری پر تعلیک دی
نشان شدہ ایک دو حرف کی تعلیک کو ملاحظہ کرو۔

س ع غ ت	ع ف (ل) ث	ف ص ب خ	ص (ق) ج ذ
ق ر د ض	(ر) ش ھ ظ	ش ت و (غ)	ت ذ ا
ث خ (ح) ب	خ ذ ط ج	ذ (ض) ی د	ض ظ ک ھ
(ظ) غ ل و	غ ا م (ز)	و ب ن ح	ب ج (س) ظ
ج د ع ی	د (ہ) ف ک	ھ و ص م	(و) ز ق م
ذ ح ر (ن)	ح ط ش س	ط ی (ت) ع	ی ک ث ف
ک (ل) خ ص	ل م ذ ق	(م) ن ض ر	ن س ط (ش)

اب ۷ -۷ کی تقسیم کے بعد ۱۶ حروف مستحضرہ نشان شدہ دستیاب ہوئے

نقشہ اساس

نمبر شمار	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
اساس	ا	ب	ج	د	ھ	و	ز	ح	ط	ی	ک	ل	م	ن
نظیرہ ابجدی	س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ
نظیرہ حطی	ج	د	ا	ب	ز	ح	ھ	و	ک	ل	ط	ی	س	ع
نظیرہ التغیغ	ن	خ	ذ	ض	ظ	ق	ک	ل	م	ت	ر	ح	ط	ا

نظائر

۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	
س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ	
ا	ب	ج	د	ھ	و	ز	ح	ط	ی	ک	ل	م	ن	
م	ن	ق	ر	ف	ص	ث	ح	ش	ت	ظ	غ	ذ	ض	
غ	ر	ش	ت	و	ع	ف	ص	ی	ب	ج	د	ہ	س	

اس مستحصلہ (۲۹، ۳۸، ۲۸) کو سامنے رکھ کر مستحصلہ مثالیہ کا حل یہ ہے

نمبر شمار	حروف مستنبطہ	حروف مستحصلہ	حل مستحصلہ
۱	—	—	بذاتہ لیا گیا
۲	ت	ن	نظیرہ اہطی لیا گیا
۳	ا	ع	نظیرہ ایقغ سے حاصل ہوا
۴	غ	ل	غین کا نظیرہ ض - ض کا ل
۵	ح	خ	حا سے نظیرہ داو - واؤ سے خا (از دسیغ)
۶	ض	ر	نظیرہ ایقغ
۷	ض	م	نظیرہ ابجدی
۸	ز	ظ	نظیرہ اہطم
۹	ج	—	نظیرہ ابجدی
۱۰	ھ	—	ھ سے ق - ق سے الف (از ایقغ)
۱۱	ر	ر	بذاتہ
۱۲	ن	م	خلاف قاعدہ از تنزل حرفی
۱۳	ت	ر	از دست
۱۴	ل	—	ل سے ی - ی سے الف (از ایقغ)
۱۵	م	ر	م سے س - س سے د ر از وسیغ)
۱۶	ش	—	ش سے ث - ث سے ی - ی سے الف از ایقغ

خلاصۂ مستحصلہ

سو فی صدی دنایاب ہدایت

اس مستحصلہ کا قاعدہ یہ ہے۔
کہ پہلے یہ دیکھیں کہ جس حرف کا مستحصلہ لینا ہے۔
(۱) اگر وہ بذاتہ لیا جا سکتا ہے۔ اسی کو لے لیا جائے اور کسی دوسرے حرف کی ضرورت نہیں ہے۔
(۲) اگر وہ حرف بذاتہ نہیں لیا جا سکتا۔ تو اس کا ہم مرتبہ ابجد ایقغ سے لیں۔ مثلاً الف کا مستحصلہ لینا ہے تو ای ق غ سے کوئی حرف لے کر فٹ کریں۔ یا ب کا مستحصلہ لینا ہے تو بکر سے ایک حرف لے لیں وغیرہ وغیرہ۔
(۳) اگر مذکورہ بالا ہر دو طرائق سے کوئی حرف نہیں لیا جا سکتا تو پھر حرف مذکورہ کا نظیرہ ابجدی یا اہطمی یا ایقغی لے لیں۔
(۴) اگر اس طرح بھی حرف مطلب پیدا نہ ہو۔ تو پھر

حرف مطلوبہ کے ہم مرتبہ نظائر پر غور کریں اور اس میں سے کوئی مناسب حرف لے لیں۔ بس اسی طریقہ سے کل مستحصلات حل کر لیں۔ ایک مستحصلہ کا حل پیش کیا گیا ہے۔ بقیہ خود آپ اسی طریقہ پر حل کر لیں۔

اس سلسلہ میں آپ کو جس نقشہ کی ضرورت پڑے گی وہ نقشہ اساس و نظائر میں نے بنا کر آپ کی مشکل آسان کر دی ہے۔ اللہ کریم آپ کا ادراک کھول دے۔



مُستحصلہ
عجیب

ایک تحفۂ نادرہ

یہی مستحصلہ

تائیدِ غیبی ہے

حل کردہ
شاد گیلانی

اصل قاعدہ مستحصلہ یہ ہے

کہ

اساس بچھا کر اس کو نظیرہ ابجدی دے دیا جائے پھر بطریق مستحصلہ سطر مستحصلہ حاصل کی جائے .. .. مگر سطر مستحصلہ کے آگے چار حروف بطریق قواعد مندرج اضافہ کیا جائے۔

اس سطر مستحصلہ کو نظیرہ ابجد دے دیا جائے اور نظیرہ ابجد کو عزائیز دیا جائے۔

سطر عزائیز کو دو دفعہ صدر موخر کر لیا جائے۔ دوسری بار سطر تکسیر کو نظیرہ دے دیا جائے جواب آجائے گا - انشاء اللہ

اب دوسرے صفحہ پر مثال ملاحظہ کریں

سوال :- کیف أمر الرضاء مع المامون   مدخل کبیر ۱۶۶۱

تعداد حروف ۲۰ - نقاط حروف ۵

سطر اساس = غ ی ن خ ا س ی ن ا ل ف ک ا ف ه ا

سطر نظیرہ = ن خ غ ی س ا خ غ س ض ج ذ س ج ق س

سطر مستحصلہ = ش غ ل ک ک ف غ ظ ر ج ح م ص ن د ک = ظ ن ن د

تکسیرہ = ز ن ض ذ ذ ج ن م و ف ت ظ د غ ص ذ م غ غ ص

عزائم = ه ع غ ظ ظ ا ع س ح ق خ ذ ب ض ر ظ س ص ض ر

سطر صدر موخر = ر ه ض غ ض غ س ظ ظ ظ ر ا ض ع ب س ذ ح خ ق

" " = ق ر خ ه ح ض ذ ع س ض ب غ ع س ض ظ ا ط ر ط

نظیرہ جواب = ه و ی ق ت ل ک ب ا ل ع ن ب ا ل م س م و م

جواب = هو یقتلك بالعنب المسموم

نقشۂ مُستحصلہ

ک د ح ھ ش ل ف ر ط
ی ق ج م ن غ ا ظ ث
س ص ر ض ذ د خ ع ب ت

مثال درج شدہ سے
مستحصلہ کی جانچ کریں

(۱) حرف نظیرہ اوّل ن ... مستحصلہ اُوپر کا حرف ش
(۲) 〃 〃 دوئم خ ...... 〃 〃 〃 غ
(۳) 〃 〃 سوئم غ ...... 〃 〃 〃 ل
(۴) 〃 〃 چہارم ی ...... 〃 〃 〃 س ک
(۵) 〃 〃 پنجم س ...... 〃 〃 〃 س ک
(۶) 〃 〃 ششم ا ...... 〃 〃 〃 ف
(۷) 〃 〃 ہفتم خ ...... 〃 〃 〃 غ
(۸) 〃 〃 ہشتم غ .. .. سامنے کا تیسرا حرف ظ
(۹) 〃 〃 نہم س 〃 〃 〃 ر

(۱۰) حرف نظیرہ دہم ض مستقصلہ اُوپر کا حرف ج
(۱۱) " " یازدہم ج " " " ح
(۱۲) " " دوازدہم ز " " " م
(۱۳) " " سیزدہم س سامنے کا حرف ص
(۱۴) " " چہاردہم ج " " " ن
(۱۵) " " پانزدہم ق اُوپر کا حرف د
(۱۶) " " شانزدہم س " " " ک

عزیزی جو اسم مستقصلہ ہیں بیان
کی گئی ہے یہ ہے

ا ھ ط م ف ش ذ
ج ز ک س ق ث ظ

ب و ی ن ص ت ض
د ح ل غ ر خ غ



اپنے بھائیوں کی آسانی کی خاطر

قاعدہ میں ترمیم کر رہا ہوں

یعنی

مُستحصلہ کے حرف کا نظیرہ

اور اس نظیرہ کا حرف عزیزی

پیش کر رہا ہوں

یعنی

ہر حرف مستحصلہ کا لب لباب جو حرف آئے گا اس کو دوبارہ صدر موخر کر دیں۔ جواب آجائے گا۔

اساس یجیبائی نظیرہ دیا مستحصلہ حاصل کیا اور ہر حرف مستحصلہ کے پیچھے اس کا ماحصل لفظ لکھ کر دوبارہ صدر موخر کر دیا۔ جواب آجائے گا

حرف مستحصلہ	نظیرہ	عزیزی	نظیرہ یعنی ماحصل حرف
ا	س	م	ظ
ب	ع	ن	غ
ج	ف	ق	ھ
د	ص	ر	و
ھ	ق	ف	ج
و		ص	و
ز	ش	ث	ط
ح	ت	خ	ی
ط	ث	ش	ز
ی	خ	ت	ح

حرف مستحصلہ	نظیرہ	عزیزی	نظیرہ یعنی ماحصل
ک	ذ	ظ	م
ل	ض	غ	ن
م	ظ	ذ	ک
ن	غ	ض	ل
س	ا	ج	ف
ع	ب	د	ص
ف	ج	ا	س
ص	د	ب	ع
ق	ھ	ز	ش
ر	و	ح	ت
ش	ز	ھ	ق
ت	ط	ک	ذ
خ	ی	ل	ض
ذ	ک	ط	ث
ض	ل	ی	خ
ظ	م	س	ا
غ	ن	ع	ب

وضاحت اس کی اور زیادہ یہ ہے

کہ حرف مستفصلہ کے نیچے اس کا حرف ماحصل لکھ کر
دوبارہ صدر موخر کر دیا جائے جواب آجائیگا

نقشہ ہر حرف کے حرف ماحصل کا

ا ب ج د ھ ز ح
ظ غ ھ د ج ر ط ی حرف ماحصل


ط ی ک ل م ن س ع
ز ح م ن ک ل ف ص حرف ماحصل

ف ص ق ر ش ت ث خ
س ع ش ت ق ر ذ ض حرف ماحصل

ذ ض ظ غ
ش خ ا ب حرف ماحصل

صاحبِ قاعدہ رقمطراز ہے

کہ پہلے اساس - پھر نظیرہ - پھر مستحصلہ
ردرمیانی حرف آخیر دو سے مقدم دو دفعہ
مابعد ایک)
پھر نظیرہ پھر سطر عرایز پھر دوبارہ صدر موخر پھر
نظیرہ - اور یہی نظیرہ جواب ہوگا۔



قاعدہ حرف مستحصلہ لینے کا

جو حرف مکرر نہیں آیا یعنی نظیرہ کی سطر میں صرف ایک
بار آیا ہے۔ اُس کا اُوپر کا حرف .... حرف مستحصلہ ہوگا۔
یعنی اوپر والی سطر کا حرف
اور جو حرف مکرر آیا ہو یعنی سطر نظیرہ میں چند بار آیا
ہو تو پہلی بار اُوپر کا حرف دُوسری بار سامنے کا تیسرا حرف
تیسری بار سامنے کا حرف چوتھی بار پھر اُوپر کا حرف -

اور بھی دَور قائم کریں -

چار حرف زائد اعداد سوال ۱۶۶۱ سے لیے گئے ہیں
یعنی اعداد مذکورہ سے حروف بنائے بایں طور

۱	۶	۶	۱
ق	و	و	ا

اور پھر بغیر نظیرہ دیئے

ان چاروں حروف کا مستحصلہ ظ ن ن د نقشہ مذکورہ سے لیا گیا -

مستحصلہ ہذا ابجد کدحہ کے مراتب کبیر پر قائم ہے
ابجد کدحہ اس طرح ہے -

کدحہ - شلف - زطی - قجمن - غاظث - سرضذ
وخع - بتص

اس کو مراتب پر تقسیم کیا گیا ہے -

۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
ط	ز	ف	ل	ش	ھ	ح	د	ک
ث	ظ	ا	غ	ن	م	ج	ق	ی
ت	ب	ع	خ	و	ذ	ض	ر	س
								ص -

مستحصلہ ہیں حروف عموماً تنزلاً اور خصوصاً ترفعاً حروف لیے گئے ہیں۔

یعنی اگر اوپر کا حرف لیا جائے گا تو تنزل کہلائے گا۔

مثلاً غ مرتبہ عشرات کا ہے۔

اگر اس کے اوپر کا حرف لام مرتبۂ احاد سے لیا جائے گا تو تنزل کہلائے گا۔

اگر پہلو کا حرف الف لیا جائے گا تو ترفع کہلائے گا۔

ترفعاً نیچے یعنی خ بھی ضرورتاً لیا جا سکتا ہے۔

اسی طرح ترفع یا تنزل میں ایک حرف چھوڑ کر بھی لے سکتے ہیں۔ مثال مذکورہ میں یہ سب صورتیں واضح ہیں۔

دیکھئے حرف سین کے اوپر حرف ی ہے اس کو چھوڑ کر ک لیا گیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے مثال کا چودھواں حرف جیم ہے۔ اس کے پہلو میں حرف میم ہے۔ اس کو چھوڑ کر ن لیا گیا ہے۔

اب رہا نیچے کا حرف یہ مثال حرف سین میں ہے۔

وہاں ملاحظہ ہو جہاں سین سے ص لیا گیا ہے۔

سین مرتبہ مآت کا حرف ہے اور صاد الوف کا۔ تکرار

حرف کے بارے میں یہ قاعدہ استعمال کیا گیا ہے۔

یعنی حرف نظیرہ اگر مکرر سطر نظیرہ میں آیا ہے تو اس کا مستحصلہ لینے کا قاعدہ یہ استعمال ہوا ہے :-

کہ پہلا سین آیا	اُدھر کا حرف لیا گیا
دوسرا سین آیا	سامنے کا حرف لیا گیا
پہلا غین آیا	اوپر کا حرف لیا گیا
دوسرا غین آیا	سامنے کا حرف لیا گیا

تکرار حرف کے بارے میں یہ نظریہ درست ہے مگر لازمی نہیں۔ ضرورتاً ترک بھی کیا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ ہو تکرار خانہ دوئم و ششم ہے اور ہر دو جگہ غ مستحصلہ لیا گیا ہے۔

اسی طرح سطر نظیرہ میں (ق) دو دفعہ خانہ ۱۵ - ۲۰ موجود ہے - اور ہر دو کا نظیرہ دال ہی لیا گیا ہے۔

نیز سطر نظیرہ میں حرف واو دو جگہ ۱۸ - ۱۹ ہے - اور ان ہر دو حروف کا حرف مستحصلہ نون لیا گیا ہے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے اوپر کے حرف کو موقعہ دیں
پھر پہلو والے حرف کو مستحصلہ ہونے کا موقعہ دیں
پھر نیچے والے حرف کو مستحصلہ ہونے کا موقعہ دیں

اس کی آسان صورت یہ ہے ۔ کہ آپ نقشہ مراتب کے حروف کے ساتھ ان کے نظائر دعرایز سے حاصل شدہ حروف لکھ لیں۔ تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس حرف کو ترجیح دی جائے ۔

یہ قاعدہ امید افزا ہو سکتا ہے مشق اور تجربہ سے انشاء اللہ مشکلات بھی دُور ہو جائیں گی ۔

نقشہ مراتب مع حروفِ حاصلہ

مراتب	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
احاد	ک م	د و	ح ی	ھ ج	ش ق	ل ن	ف س	ز ط	ط ز
عشرات	ی ح	ق ش	ج ھ	م ک	ن ل	غ ب	ا ظ	ظ ا	ث ذ
مایات	س ف	ر ت	ض غ	ذ ث	د و	خ ض	ع ص	ب غ	ت ر
الوف	ص ع								

حروف مستحصلہ حاصل کرنے کا ایک پہلو اور بھی باقی ہے جو مثال مذکورہ میں نہیں ہے ۔

اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کسی حرف کے پہلو سے راست سے ترفعاً لینے کا مجاز ہوتا ہے اسی طرح پہلوئے چپ سے بھی ضرورتاً حرف لے سکتے ہیں ۔


مثلاً حرف غین کا مستحصلہ پہلوئے راست سے الف ہو گا۔
اور پہلوئے چپ سے نون لیا جائے گا۔

ماحصل یہ ہے کہ ہر حرف کا مستحصلہ بدرجہ اوّل حرف بالائی بدرجہ دوئم حرف پہلوئے راست بدرجہ سوئم حرف تحتی بدرجہ چہارم حرف پہلوئے چپ۔

بس مستحصلہ اسی کے اندر ہے اس سے باہر نہیں ہے۔

حصولِ مستحصلہ کے

طریق ہذا کو بدوح بلین میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی جس عدد سے حروف حاصل کرنا ہو اس عدد حاصلہ کے نظیرہ کو ملاحظہ کریں۔ اساس یا نظیرہ کے حرف سے جو حرف مستحصلہ اوپر یا پہلو میں یا نیچے ہو اس کو ترجیح دیں۔ یہ نئی چیز قابل توجہ ہے۔ میں تا حال اس پر غور نہیں کر سکا۔ بعد تجربہ مزید کچھ لکھوں گا



ابجد کدحہ کا ایک بے نظیر تحفہ لکھ رہا ہوں۔ در اصل یہ وہی قاعدہ ہے۔ اس کا سہل ترین قاعدہ میں نے نکال لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ سطر اساس کے بعد سطر نظیرہ کو ایک یا دو یا زائد بار تکسیر کر کے جواب حاصل کریں۔ تکسیر کتنی بار ہو گی یہ بات عمل ہی سے قائم ہو سکتی ہے۔ قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ بہر حال مستحصلہ کی مثال میں دو بار تکسیر ہے۔ لہذا اسی مثال میں دو بار کر کے جواب حاصل کریں۔ طریق جواب یہ ہے کہ دو بار تکسیر نظیرہ کر کے تکسیر کی آخری سطر کے ہر حرف کو پہلے جدول مستحصلہ میں تلاش کریں کہ وہ کس نمبر پہ درج ہے۔ آپ کا حرف جس نمبر پہ درج ہو وہی نمبر جدول جواب میں تلاش کریں۔ جہاں وہ نمبر جدول جواب میں ملے اسی نمبر کے اوپر یا پہلو سے حرف لے کر جواب حاصل کریں۔

خلاصہ یہ کہ طریقہ وہی ہے صرف فرق یہ ہے کہ تکسیر اوّل کی گئی ہے اور جواب نئے مرتب کردہ نقشہ سے لیا گیا ہے۔

ہر دو جدولات مع مثال درج ہیں

جدول مستحصلہ

۱ ک	۲ د	۳ ح	۴ ھ	۵ ش	۶ ل	۷ ف	۸ ز	۹ ط
۱۰ ی	۱۱ ک	۱۲ ج	۱۳ م	۱۴ ن	۱۵ غ	۱۶ ا	۱۷ ظ	۱۸ ث
۱۹ س	۲۰ ر	۲۱ ض	۲۲ ذ	۲۳ و	۲۴ خ	۲۵ ع	۲۶ ب	۲۷ ت
۲۸ ص								

جدول جواب

۱ م	۲ و	۳ ی	۴ ج	۵ ق	۶ ن	۷ س	۸ ط	۹ ز
۱۰ ح	۱۱ ش	۱۲ ھ	۱۳ ک	۱۴ ل	۱۵ ب	۱۶ ظ	۱۷ ا	۱۸ د
۱۹ ف	۲۰ ت	۲۱ خ	۲۲ ث	۲۳ ذ	۲۴ ض	۲۵ ص	۲۶ غ	۲۷ ر
۲۸ ع								

اساس غ ی ن خ ا س ی ن ال ف ک ا ف ھ ا ا د و ق

نظیرہ ن خ غ ی س ا خ غ س ض ج ذ س ج ق س ا و و ق


تکسیر ق ن و خ و غ ا ی س س ق ا ج خ س غ ذ س ج ض

تکسیر ض ق خ ن س و ذ خ غ و س غ خ ا ج ی ا س ق س

جواب ھ و ی ق ت ل ک ب ال ع ن ب ا ل م س م و ق

آخری سطر تکسیر میں ض ہے جو نقشہ مستفصلہ کے نمبر ۲۱ پر درج ہے نقشہ جواب میں نمبر ۲۱ کے اُوپر کے خانے میں وہ لکھا ہے وہ لیا۔ علیٰ ہذا القیاس


جواب کی منزل سطر نظیرہ سے ہی شروع ہو جاتی ہے اس لیے پہلے جواب بلا تکسیر نظیرہ سے پیدا کرنا چاہیے۔ اگر اس سے جواب بر آمد نہ ہو تو ایک بار تکسیر کر کے اس سے جواب حاصل کریں اگر پھر بھی جواب پیدا نہ ہو تو پھر تکسیر کر کے جواب بر آمد کریں۔ غرضیکہ کم و بیش حسب ضرورت تکسیر کریں۔



حصّہ اخبار

مستحصلاتِ خفیہ

نتیجۂ فکر
شاد گیلانی



مستحصلاتِ خفیہ

(۱) سوال : حاملہ عورت کیا جنے گی ؟

طریق حل :- نام حاملہ مع مادر اور روز سوال کے اعداد انخراج کر کے ۳ پر تقسیم کریں - ایک باقی رہے تو فرزند نرینہ - ۲ باقی رہیں تو دختر اور ۳ پر پورا تقسیم ہو جائے تو حمل گر جائے -

(۲) یہ عورت نیک ہے یا بد ؟

اعداد نام عورت مع والدہ - اور روز سوال کے اعداد جمع کر کے ۴ پر تقسیم کرد - ایک باقی رہے تو ظاہر و باطن نیک - ۲ باقی رہیں تو ظاہر میں نیک باطن میں بد - ۳ باقی رہیں تو ظاہراً بد ہے - ۴ باقی رہیں گا ہے نیک گا ہے بد -

(۳) میاں بیوی میں موافقت ہو گی یا نہ ؟

اعداد نام شوہر مع والدہ اور اعداد روز سوال جمع کر کے ۳ پر تقسیم کریں - ایک باقی رہے تو دونوں طرف سے دوستی اور موافقت نہ رہے گی -

۲ رہیں تو دونوں طرف سے دوستی قائم رہے گی ۳ باقی رہیں

تو صلح و محبت ہو گی۔

(۴) بیمار کو مرض کیا ہے ؟

اعداد نام مریض مع مادر اور روز سوال کے اعداد جمع کر کے ۴ پر تقسیم کریں۔ ایک باقی رہے تو نظر دیو پری ہے۔ ۲ باقی رہیں تو بیماری جسم کی ہے۔ علاج الادویہ سے آرام ہو گا۔ ۳ باقی رہیں تب بھی یہی حکم ہے۔ ۴ باقی رہیں تو سحر یا جادو کیا گیا ہے۔

(۵) بیمار کو صحت ہو گی یا نہ ؟

اعداد نام مریض معہ والدہ اور روز سوال کے اعداد کو جمع کر کے ۳ پر تقسیم کرو۔ ایک باقی رہے مر جائے۔ ۲ باقی ہوں صحت ہو گی ۳ باقی ہوں بیماری طول پکڑے۔

(۶) مسافر خیریت سے آئے گا یا نہیں ؟

اعداد نام مسافر مع والدہ و روز سوال کے اعداد جمع کر کے ۲ پر تقسیم کریں۔ ایک باقی رہے صحیح و سلامت واپس آئے۔ ۲ باقی رہیں۔ سلامتی سے واپس نہ آئے گا۔

(۷) دو دشمن شخصوں کے درمیان صلح ہو گی یا نہ ؟

مدعی اور مدعا علیہ مع دونوں کی والدہ کے اعداد میں روز

سوال کے اعداد شامل کر کے ۴ پر تقسیم کریں۔
ایک باقی رہے مدعی غالب رہے۔
۲ باقی بچیں مدعا علیہ غالب ہو۔ ۳ باقی رہے صلح ہو جائے
۴ پر پورا تقسیم ہو جائے تو ہمیشہ تکرار رہے گی۔

(۸) سفر کرنا اچھا ہے یا نہیں ؟

اعداد نام مسافر مع والدہ اور روز سوال کو جمع کر کے ۲ پر تقسیم کریں۔ ایک باقی رہے تو سفر کرنا اچھا نہیں۔ ۲ باقی رہیں تو اچھا ہے۔

(۹) غائب کس حالت میں ہے ؟

نام غائب مع والدہ و روز سوال کے اعداد جمع کر کے ۴ پر تقسیم کریں۔ ایک باقی رہے تو تندرست ہے۔ ۲ باقی ہوں جلدی واپس آئے ۳ باقی رہیں ہرگز واپس نہ آئے۔ ۴ پر پورا تقسیم ہو تو سلامت ہے۔ مگر دیر سے واپس آئے۔

(۱۰) کس تجارت میں نفع ہے ؟

اعداد نام تجارت کنندہ مع مادر و روز سوال کو جمع کر کے ۴ پر تقسیم کریں۔ ایک باقی رہے تجارت جمادات و جواہرات۔ ۲ باقی رہیں تو اشیائے مٹھائی۔ میٹھی۔ نشکر گڑ وغیرہ۔ ۳ باقی رہیں

حیوانات کی تجارت ۔ ۴ باقی رہیں تو نباتات ۔ ایندھن ۔ گھاس جڑی بوٹیوں کی تجارت کرے ۔

(۱۱) دولت کس ذریعہ سے ملے گی ؟

اعداد نام سائل مع مادر وبوم دوقت سوالی کو جمع کر کے سات پر تقسیم کریں ۔ ایک بچے تو کسی عورت کے ذریعہ سے فائدہ ہوگا ۔ اگر ۲ بچیں تو کسی شریف آدمی کے ذریعہ ۔ ۳ باقی رہیں تو ملازمت یا کسی دوسرے روزگار سے ۔ ۴ باقی رہیں تو غیر ملک کے جانے سے ۔ ۵ باقی رہیں تو زندگی بھر کچھ نہ ملے ۔ ۶ بچیں بیوپار سے ۔ ۷ باقی بچیں تو چوری یا دغابازی سے ۔

(۱۲) شرکت کرنا اچھا ہے یا نہیں ؟

اعداد نام سائل و دیگر اشخاص مع ان کی والدہ اور روز سوال ۔ تمام کے اعداد جمع کر کے ۲ پر تقسیم کریں ۔ ایک باقی رہے تو شرکت اچھی ہے ۲ باقی رہیں تو شرکت بری ہے ۔

(۱۳) چور مرد ہے یا عورت ؟

نام سائل مع والدہ و روز سوال کے اعداد کو ۲ پر تقسیم کریں ایک باقی رہے چور مرد ہے ۔ ۲ باقی بچیں تو چور عورت ہے ۔

(۱۴) چور گھر کا ہے یا باہر کا ؟

اعداد نام مع والدہ اس شخص کے جس کی چوری ہوگئی ہے نکال کر اس میں روز سوال کے عدد شامل کریں - پھر ۳ پر تقسیم کریں - ایک باقی بچے تو چور گھر کا ہے - ۲ باقی رہیں چور ہمسایہ ہے ۳ باقی رہیں چور بیگانہ ہے -

(۱۵) پہلے عورت مرے گی یا مرد ؟

عورت اور مرد دونوں کے نام مع والدہ کے اعداد نکال کر روز سوال کے عدد بھی شامل کریں - پھر ۲ پر تقسیم کریں - ایک باقی رہے اوّل عورت مرے گی - ۲ باقی رہیں تو مرد پہلے مرے گا -

(۱۶) اس عورت سے نکاح کروں یا نہ ؟

نام عورت مع والدہ اور روز سوال کے اعداد نکال کر ۴ پر تقسیم کریں - ایک باقی رہے تو نکاح سازگار رہے گا - ۲ باقی رہیں میانہ حالات رہیں گے ۳ کبھی لڑائی کبھی صلح - ۴ مرد عورت دونوں کے لیے نکاح بہتر ہے -

(۱۷) غائب زندہ ہے یا مُردہ ؟

نام غائب مع مادر و نام روز و وقت حساب کر کے مجموعہ

اعداد کو ۴ پر تقسیم کرے - ایک باقی رہے زندہ ہے -۲ باقی رہیں جلدی واپس آئے - ۳ باقی رہیں زندہ دیر میں واپس آئے ۴ باقی بچیں مرگیا ہے یا مرجائے گا -

(۱۸) یہ لوح حیات ممات عام طور پہ جنتریوں میں چھپی ہوئی آپ دیکھتے ہیں - در اصل اس کا حساب بہت حد تک درست ہے - اس لیے اس کتاب میں درج کر رہا ہوں -

نام مریض مع مادر کے اعداد میں جس روز وہ بیمار ہوا تھا تا روز حساب جس قدر روز گزر گئے ہوں - جمع کرکے وقت حساب ملا کر کل مجموعہ کو ۳۰ پر تقسیم کر دو - اور دیکھو کہ وہ عدد لوح حیات میں ہے یا لوح ممات میں ہے - لہذا اس کے مطابق حکم شفا یا مرگ لگا دو -

لوح حیات

۱۹	۱۵	۱۰	۱
۱۶	۲۳	۳	۲۷
۳۰	۲۹	۲۶	۱۳
×	۱۷	۱۴	۲

لوح ممات

۲	۲۳	۲۴	۴
۱۲	۵	۲۱	۲۸
۱۸	۱۱	۹	۲۵
×	۳۰	۶	۷

(۱۹) کیا بارش ہو گی؟

نام سائل مع مادر و یوم و وقت سوال کے اعداد کو جمع کر کے چار پر تقسیم کریں ایک باقی رہے تو بارش کم ہو گی۔ ۲ رہیں تو بارش عمدہ ہو گی۔ ۳ باقی رہیں تو صرف بادل دکھائی دیں مگر بارش نہ ہو۔ اور چار سے بارش نہ ہو گی۔

(۲۰) غائب کس طرف ہے؟

یہ طریقہ ۹/۱ درست ہے جس ستارے کی حکومت کے دن غائب ہوا ہو۔ اس ستارے کا عدد معلوم کر کے جو سمت ہو اسی طرف بھاگ گیا ہے۔

عدد ستارہ	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
	مشرق	شمال	مشرق	مغرب	مغرب	شمال	جنوب
نمبر ستارہ	شمس	قمر	مریخ	عطارد	مشتری	زہرہ	زحل
نام روز	اتوار	سوموار	منگل	بدھ	جمعرات	جمعہ	سنیچر

(۲۱) خالد اور بکر میں سے پہلے کون مرے گا؟

دونوں کے اعداد مع والدہ علیحدہ علیحدہ نکالیں جمع کریں۔ اور دو پر تقسیم کریں۔ اگر جفت رہیں تو جس کی عمر کم ہو گی وہ پہلے مرے گا۔ اور اگر ایک باقی رہے تو جس کی عمر زیادہ ہو گی وہ پہلے

مرے گا۔

(۲۴۲) فلاں کام کروں فائدہ ہوگا یا نہ ؟

اعداد نام سائل مع والدہ + اعداد ساعت حاصل جمع

÷ ۷

ایک باقی رہے بہتر ہے۔ ۲ فائدہ کثیر۔۳۔۴ کام نہ کرنا چاہیے۔ ۵ مقصد پورا ہو ۶ فائدہ بہت ہو ۷ غیر مفید

(۲۴۳) مریض اچھا ہوگا یا نہ ؟

اعداد نام مریض مع والدہ + اعداد یوم وساعت حاصل جمع

÷ ۴ باقی ایک بچے تو بچنا محال ہے

۲ باقی رہیں تو شفا ہوگی

۳ بیماری میں ترقی ہوگی ۔ ۴ باقی رہیں مرض روز بروز گھٹے گا

(۲۴۴) مادۂ مرض کیا ہے ؟

اعداد نام مریض مع والدہ + اعداد یوم ساعت + اعداد اعداد کل یعنی حاصل جمع ÷ ۷

ایک باقی رہے دموی خلط سے خرابی ہے ۲ باقی رہیں تو صفراوی بار یاحی شکایت ہیں۔ ۳ باقی رہیں بلغمی مادہ ہے۔

۴ باقی رہیں سوداوی مادہ ہے۔ ۵ باقی رہیں آسیب کا اثر ہے۔ ۶ مکر ہے کوئی مرض نہیں۔ ۷ باقی رہیں تو صدمہ روحانی سے مرض پیدا ہے۔

جفر سے تشخیصِ مرض کا ایک زرّیں اُصول

ایک طریق علم جفر سے میں بیان کرتا ہوں جو نہایت مستند ہے۔ اور جب آپ آزمائش کریں گے بحکم خدا صحیح پائیں گے۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ جب بیمار اپنا حال کہنا شروع کرے تو جو کلمہ اس کے منہ سے پہلے نکلے وہ لکھ لو۔ اور نام بیمار کا لکھو اور اس وقت جو ستارے کی ساعت ہو اس ستارے کا نام لکھو اور جس ستارے کا وہ دن ہے اس ستارے کا نام لکھو اور ان سب کو بسیط کر کے ان حروف کو عناصر پر پیش کرو۔ جس جس عنصر کے حروف زیادہ ہوں گے اسی سبب سے مرض پیدا ہو گا یہ قاعدہ اس قابل ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ لسان الغیب ہے۔

دیگر قاعدہ:۔ آپ مریض سے کہیے کہ وہ کوئی حروف

اپنی زبان سے کہے لپس جو حرف زبان سے کہے اس کا ثمرہ حسب ذیل ہے۔

حروف

ا ی = بخار ہے صفرا ہے کہ سرسام کے آثار ہیں۔ یا کہیں درد ہے۔ خصوصاً قولنج۔

ب ص = بخار ہے۔ معدہ میں خرابی ہے۔ بواسیر ہے۔ سل ہے۔ خارش ہے۔ دنبل ہے۔

ج۔ ق = کسی جگہ ورم ہے۔ کھانسی ہے۔ ریاح ہے۔ سردی نے ستایا ہے۔ لقوہ ہے۔

د ر = بدن کے کسی نچلے حصہ میں درد ہے۔ بلغم اور سودا ہے۔ تپ ہے۔

ھ۔ ش = صفرا ہے پیاس ہے۔ خشکی ہے۔ یرقان ہے۔

و ت = درد منہ۔ بلغم۔ بخار۔ قولنج۔ پیشاب کی کوئی تکلیف جریان ہے۔

ز ث = خرابی معدہ۔ درد شکم یرقان وغیرہ

ح خ = بخار۔ سوداویت۔ حزن۔ پیٹ کی خرابی۔

ط ذ = زکام پیچش۔ سردی میں کان کے درد

ی ض = کثرت غم سے علامت ہے بخار ہے۔ بدن کے نچلے حصے میں درد ہے۔

ک ظ = معدہ میں خرابی۔ بے ہوشی۔ صدع۔ بواسیر ہے

ل غ = قبض۔ درد معدہ اور کوئی روحانی تکلیف ہے۔

م × = درد شکم۔ درد سینہ نیا زکام۔ درد پشت یا کسی جانور نے کاٹا ہو۔

ن = کھانسی بخار۔ درد پشت۔ گردہ۔ دق

س ع = آلات تناسلہ کمزور۔ بخار۔ لرزہ وغیرہ وغیرہ۔

قاعدہ

اگر کوئی شخص بتائے کہ میری لڑکیاں اور لڑکے کتنے ہیں؟ اس سے کہیے کہ جس قدر لڑکے ہوں ان کی تعداد کو دگنا کر لو۔ (دل میں) جب وہ دگنا کر لے تو اس سے کہیے کہ اسے پانچ سے ضرب دو۔ جب وہ ضرب دیدے تو اس سے کہو کہ حاصل ضرب میں جس قدر لڑکیاں ہیں جمع کر دو۔ اس میں اکائی لڑکیاں ہیں اور دہائی لڑکے۔

مثلاً ایک شخص کے تین لڑکے اور چار لڑکیاں ہیں ۔
لڑکے ۳×۲ = ۶ اب ۶×۵ = ۳۰ اور ۴ جمع کر لو پس ۳۴
پس ۴ لڑکیاں اور لڑکے ۳ ہیں ۔ یہ حساب کبھی غلط نہیں ہوتا ۔

قاعدہ جفر برائے حاصل کردن جواب


یہ قاعدہ ایک عامل سے حاصل ہوا تھا اور تجربہ پر بہت مفید ثابت ہوا ۔ سائل کا نام سوال کے حروف اور اس وقت جس ستارہ کی ساعت ہو اس ستارے کے حروف ان سب کے حروف کو شمار کر کے اس دن کی تاریخ پر تقسیم کرو ۔ یا تفریق کر دو ۔ اگر باقی وہ عدد بچے جس کا نصف کامل ہو سکے ۔ جیسے ۲-۴-۶-۸ تو یقیناً کامیابی ہوگی ۔ اگر وہ عدد بچ رہے جس کا نصف ناقص ہو جیسے ۳-۵-۷ تو کامیابی مشتبہ ہے ۔ اگر تقسیم یا تفریق کامل ہو جائے اور کوئی عدد نہ بچے تو کامیابی ہو گی مگر دیر سے ہوگی ۔

میرا روز و شب کا معمول ہے ۔ زبانی حل کر لیا کرتا ہوں ۔ کبھی خطا نہیں گیا ۔

حصۂ آثار

و

عملیاتِ نادرہ



قوتِ مردانگی کا عجیب عمل

بعض علمائے جفر حرف غ کو اور بعض ج کو قوت باہ کے واسطے اکسیر صفت بتاتے ہیں لیکن میری تحقیق ہے کہ حرف س ان دونوں سے زیادہ صاحب طاقت و عظمت ہے اور جب ب اور س کو ممزوج کرکے عمل بنایا جائے تو پھر اس کی طاقت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہر حال میں ایک ترکیب طلسم لکھ رہا ہوں جس حرف سے دل چاہے عمل تیار کریں۔ فائدہ سے کوئی ایک بھی خالی نہیں۔ قوتِ مردانگی کمزور ہو چکی ہو تو نہ کسی کشتہ کھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی بیرونی طلاء کی۔ فقط نقش بنا لیجئے اور قوت سے بھرپور ہو جائیے

اپنے نام کے اعداد بحساب ابجد جمع کرو۔

پھر حرف غ و ج یا ب و س کے عدد بھی اس مجموعہ میں زیادہ کر دو۔

پھر اس مجموعہ میں ۱۶۳۱ زیادہ کرکے ۲۸ پر تقسیم کر دو۔ جو عدد باقی بچ رہے اس کا حرف از روئے ابجد قمری بنا کر اس کے آگے لفظ طیش زیادہ کر دو۔

پھر لوہے کی انگوٹھی بنوا کر اس پر یہ کلمہ ساعت مریخ میں کندہ کرا کر اپنے داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنو میں امید کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ تم کو شباب کا مزا آجائے گا۔

کوئی صاحب انگوٹھی بنوانے کے لیے مجھے نہ لکھے میں کسی کو نہ بنا کر دے سکتا ہوں اور نہ میرا کاروبار عمل فروشی ہے۔

جفرِ احمر

جس قاعدے میں جفر اور نجوم کا باہمی پیوند لگایا گیا ہے اس کا نام جفر احمر ہے۔ میں اس جفر سے ایک نادر عمل مجرب المجرب لکھ رہا ہوں۔ قارئین خوب فائدہ اٹھائیں نادر چیز ہے۔ طالبِ مطلب کے نام کے اعداد نکال کر ۱۲ پر تقسیم کریں جو باقی بچ رہے اس کو برج حمل سے شمار کریں کہ کس برج پر عدد ختم ہوتا ہے جو برج آئے اس برج کا ستارہ معلوم کریں۔

اگر برج اسد اور سرطان پر اعداد ختم ہوں تو یہ اکیلے برج ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ ہر برج ۲-۲ ہیں۔ لہذا دونوں برجوں کے نام یہ ہیں ؛

تفصیل کے لیے سُنیئے

ستارہ = شمس - قمر - مریخ - عطارد - مشتری

برج = اسد - سرطان - حمل - عقرب - جوزا و سنبلہ قوس وحدت

ستارہ = زہرہ زحل

بُرج = ثور - میزان - جدی دلو

اب آپ کے پاس ۴ - ۵ جز د ہو گئے -

(۱) نام طالب (۲) نام مطلوب (۳) نام ستارہ (۴) نام بُرج (۵) نام بُرج

اب طالب کے نام کے اعداد علیحدہ لکھو - اور جس قدر اس کے عدد ہوں - اسی عدد کا ایک نام یا ۲ نام خدا کے لو - پھر مطلوب کے نام کے اعداد نکال کر اس کے ہم عدد خدا کا نام تلاش کر و -

اسی طرح تمام جزو کے اسماء خداوندی تلاش کریں -

اب وہ اسمائے خداوندی جو تم نے حاصل کیے ہیں روزمرہ اُتنی تعداد میں پڑھو جس قدر تعداد تم نے جمع سے حاصل کی ہے - یعنی جو ستارہ تم نے پہلے حساب میں حاصل کیا ہے اس ستارے کی ساعت میں پڑھو - خدا نے چاہا تو انتہا ۹ دن میں مطلب حاصل ہو گا - کسی قسم کا پرہیز اس عمل میں نہیں ہے -

اگر مطلوب کوئی شخص نہیں بلکہ کوئی کام ہے - مثلاً ترقی - روزگار

رزق وغیرہ تو مطلوب کے نام کی جگہ اس کام کا نام لکھ دو۔ یہ علم سینہ ہیں اور جگر کے ٹکڑے ہیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے۔

نقشِ بواسیر

عجیب غریب لاجواب ہزارہا کا مجرب نقش ہے۔
فرمائیے اس کتاب میں آپ کو کیسی بیش بہا چیزیں مل رہی ہیں۔
بروز چہارشنبہ (بدھ کے دن) بوقت طلوع آفتاب لکھ کر چاندی کے تعویذ میں مڑھ کر دائیں ہاتھ کے گٹے پر باندھیں۔ اکتالیس یوم کے اندر اندر مسے اور بواسیر کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا

۱۲	۱۵	۱۸	۵
۱۷	۶	۱۱	۱۶
۷	۲۰	۱۳	۱۰
۱۴	۹	۸	۱۹

تسخیرِ خلائق کیلئے لاجواب عمل

اسم یا مُسْتَطِیْعُ کو بوقت نماز فجر ۱۳۰۰ مرتبہ مع اول و آخر درود شریف ۳۳ مرتبہ پڑھیں۔ اکتالیس یوم کے بعد تسخیر خلائق شروع ہو گی۔ اور دوسرے چلہ میں خلقت کا ازدہام ہو جائے گا۔

خون بند کرنے کے لیے

ح م اح ل ی ق ی
ح ا ل م ح ی ح م ا
ح ل ی ق ی ح ا ل ح م
ی ی ح م ا ل ح ل ی ق
ی ح ا ل ق م ح ی ق
ی و ب ح م س

بروز شنبہ لوح رصاص پر کندہ کر کے زنگین ریشمی ڈورے میں باندھ کر گلے میں ڈالے خون خواہ کسی قسم کا ہو بند ہو جائے گا۔ مجرب المجرب ہے

نقش برتھ کنٹرول مجرب آزمودہ

مرد انگشتری کے نگینہ پر رجب کی پہلی تاریخ کو اس نقش کو کندہ کرا کر انگلی میں پہن لیں اور کاغذ پر لکھ کر عورت کے بازو پر باندھ دیا جائے۔ کبھی حمل قائم نہ ہوگا۔

ا ی ۱۱ ۹۱۱ ۱۱ ک دطاھ ۱۹۹ ملا

استخارہ مجرب

مندرجہ ذیل نقش کو لکھ کر تکیہ کے نیچے رکھ کر اسمائے الٰہی " یا خبیر یا ھادی یا مبین " لاتعداد نیند آنے تک پڑھتے ہوئے سو جاؤ اور اپنے مقصد کا خیال دل میں رکھو۔ انشاء اللہ صاف جواب ملے گا۔ میں نے اس استخارہ سے بڑے بڑے کام لیے ہیں مستقلہ ابو طالبی کی ایک مقام پر مجھے سمجھ نہ آتی تھی اس استخارہ سے مجھے

اس کی پوری وضاحت ہوگئی۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

رفیع الدرجات ذوالعرش

۲۰۰	۱۰	۲	۶۰۰	۲۰۰	۱۰	۲	۶۰۰
۲	۶۰۰	۲۰۰	۱۰	۲	۶۰۰	۲۰۰	۱۰
۲۰۰	۱۰	۲	۶۰۰	۲۰۰	۱۰	۲	۶۰۰
۲	۶۰۰	۲۰۰	۱۰	۲	۶۰۰	۲۰۰	۱۰
۱۰	۲	۶۰۰	۲۰۰	۱۰	۲	۶۰۰	۲۰۰
۶۰۰	۲۰۰	۱۰	۲	۶۰۰	۲۰۰	۱۰	۲
۱۰	۲	۶۰۰	۲۰۰	۱۰	۲	۶۰۰	۲۰۰
۶۰۰	۲۰۰	۱۰	۲	۶۰۰	۲۰۰	۱۰	۲

یوم التلاق یوم ہم بارزون

یلقی الروح من امرہ

علی من یشاء من عبادہ لینذر

یاوہابُ کا عظیم الشان عمل

ترکیب یہ ہے کہ عامل تنبیہ کرلے کہ وہ آدھی رات کو بیدار ہوگا آدھی رات سے صبح تک بیدار رہنے والا شخص اس عمل کو کرسکتا ہے جو شخص وقت مقررہ پر بیدار نہ ہوسکیں وہ اس عمل کو نہ کریں۔ روزانہ کئی گھنٹے عمل کرنا ہوگا۔ عمل میں ناغہ نہ ہو۔ طلوع آفتاب تک عمل ختم ہوجاوے۔ اگر مجبوری ہو تو اس قدر اجازت ہے کہ اگر ختم نہ

کرسکو۔ تو آفتاب نکلنے سے قبل عمل شروع تو کر دیں ختم چاہے بعد طلوع ہو۔ اگر آفتاب نکل آیا اور آپ نے عمل شروع کیا تو پچھلا پڑھا ہوا بیکار ہو جائے گا۔ یہ عمل والدم شاہ صاحب اوران کے احباب کا خاص الخاص مجرّب اور نادر روزگار ہے۔

رات کو اٹھو وضو کرکے ۲ رکعت نماز نفل قضائے حاجت پڑھو۔ اول رکعت میں سورۂ والضحیٰ اور دوسری میں قل ھو اللہ شریف پڑھ کر اب مشرق کی طرف منہ کرکے نقش یا وھاب کی واو پر قلم رکھ کر ایک ہی نقش لکھیں۔ اور روزانہ ایک ہی وہی نقش کام دے گا۔ نوک قلم و پر رکھ کر ۱۴۰۰ (ایک ہزار چار سو مرتبہ) یا وہاب پڑھیں۔ پھر وھاب کی ھا پر نوک رکھ کر ۱۴۰۰ بار۔ پھر ا پر نوک رکھ کر ۱۴۰۰ بار پھر ب پر نوک رکھ کر ۱۴۰۰ بار یا وھاب پڑھیں۔ جب ۵۶۰۰ بار پڑھ لیں ایک دن کا عمل ختم ہوا۔ بس چھپن ۵۶ دن پڑھیں۔ ستاونؔ ۵۷ دن کو چاندی کے ٹول میں وہ تعویذ بند کر دیں۔ بعدہٗ حسب یا وھاب ۱۴۰۰ بار روزانہ پڑھ لیا کریں۔

تسخیرِ خلائق اور فراخیٔ رزق کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں۔ لاریب خداوند عزّ وجل کی طرف سے بخشش بہت

خزانہ عطا ہوگا۔ جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہوگا۔ حرام سے پرہیز
طہارت لازمی۔ اور کوئی پرہیز نہیں ہے۔

بے اولاد کیلئے نایاب تحفہ

اللہ تعالیٰ ضرور اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ سات تار نیلے سوت کے لے کر عورت اپنے قد کے برابر صحیح ناپے۔ یعنی پیشانی سے جہاں سے سر کے بال ہیں۔ وہاں سے پیر کے انگوٹھے تک سب ساتوں تاروں کو لے کر ذیل کی آیت شریف پڑھتے جا دیں۔ اور ہر مرتبہ پر ایک گرہ اس دھاگے میں لگاتے جاویں۔ اسی طرح ۴۱ گرہ لگا دیں اور ۴۱ مرتبہ پڑھیں اور یہ گنڈا عورت اپنی کمر سے باندھ لے۔ آیت مبارکہ یہ ہے:۔

رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ○

اور مرد یہ نقش لکھ کر موم جامہ کر کے اپنی کمر سے باندھ لے۔ خدا چاہے تو زندگی والی اولاد ہوگی۔ (تاریخ وغیرہ کوئی مقرر نہیں جب چاہیں)

قرآن زہرہ ومشتری

قرآن سے پہلے ایک انگشتری چاندی کی بنوائیے جس کے

اوپر والا حصہ ایسا ہو جس میں نقش آسکے نقش اس میں رکھ کر سُرخ رنگ کا نگینہ ایمی ٹیشن جڑ والیں۔ قرآن سے پہلے غسل کرکے خوشبو لگا کر کوئیلے دھکا کر اس میں صندل سُرخ وسفید کا بخور کریں اور زعفران سے نقش ہذا لکھ کر انگوٹھی میں رکھ کر اوپر نگینہ جڑ دیویں۔ اور دائیں ہاتھ میں پہنیں۔ انشاء اللہ روزی فراخ ہو گی۔ پیسہ سے ہاتھ خالی نہ رہے گا۔ شادی میں رکاوٹ نہ رہے گی روزگار و عیش وعشرت نصیب ہو گی۔

۳۵۸	۳۵۱	۳۵۶
۳۵۲	۳۵۵	۳۵۷
۳۵۴	۳۵۹	۳۵۲

باسمہٗ سبحانہٗ :۔ جفر جامع

برائے دریافت سوالات ہر قسم

اس نقش پر با وضو اعتقاد کامل کر کے بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر کے انگلی چھوڑیں۔ جس حرف پر انگلی پڑے اس حرف کو چھوڑ کر پھر چار چار حرف چھوڑتے ہوئے پانچواں حرف لکھتے جاویں۔ جب نقشہ پورا ہو جاوے تو جو حرف باقی رہجاویں ان کو نقشہ کے اول حرف میں جوڑ دو تو ایک عبارت پیدا ہو گی جس سے آپ کے سوال کا کافی اور وافی جواب مل جائیگا سو فیصدی جواب درست آنکی امید

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	—	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	—
۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱

عمل ہمزاد (عطیہ شفیق صاحب رامپوری)

نوچند جمعرات کو بعد نماز عشا تنہائی میں یہ عمل ایک سو مرتبہ پڑھیں اور ہر جمعرات کو ایک سو مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ تنہائی میں بعد عشاء یہ عمل ۵۲ جمعرات کو بلاناغہ پڑھے۔ ۵۱ جمعرات کو کچھ معلوم نہ ہوگا ۵۲ ویں جمعرات کو ہمزاد حاضر ہوگا۔

عمل یہ ہے :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیّ یا قیوم لا الہ الا اللہ محمد
الرسول اللہ بحق یا بدوح جو کہیں ہو کرد اللہ کی مدد سے۔

دمہ و کھانسی کا مجرّب عمل

اگر کسی شخص کو دمہ یا کھانسی کی شکایت ہو اور کسی دوائی سے فائدہ
نہ ہوتا ہو۔ تو سات عدد چھوٹی چھوٹی کنکریاں نمک لے کر ان پر نو نو
دفعہ سورت آیتہ الکرسی پڑھ کر دم کریں۔ اور مریض کو ہدایت کریں کہ
ہر روز ایک کنکری منہ میں رکھ کر چوستا رہے انشاء اللہ سات یوم میں کلی شفا ہوگی

بقائے اولاد

اگر کسی کی اولاد مر جاتی ہو۔ تو نیلے رنگ کے سوت کے چالیس تار
ایک جگہ بٹ لیں اور اس میں چالیس گرہ اس طرح دیں کہ ہر گرہ پر
ایک بار سورۂ مزمّل پڑھتے جاویں۔ اس کے بعد گلے میں ڈال دیں۔
بچے کی عمر دراز ہو گی۔

چنبل داؤ کے لیے

سات بار سورۂ فاتحہ پاک مٹی پر دم کر کے مقام مالوف پر ملیں۔
انشاء اللہ العزیز شفا ملے گی۔

ایک مجرّب عمل = مستورات کی چھاتی کا پک جانا۔

(۲) بچوں کے حلق اور گال پر ورم آ جانا۔

(۳) پسلی چلنا = یہ مرض بچوں کو عام ہوتا ہے ان ہر سہ امراض کے لیے ذیل کا عمل نہایت مجرب ہے۔

ع۱و۲ کے لیے چکنی مٹی پر یہ عمل کر کے دیا جاوے تاکہ مریض بار بار اس مٹی کو اس جگہ پر لگا دے۔ یہ عمل مریض کی غیبت میں بھی عامل کر سکتا ہے وہ اس طرح اگر تکلیف داہنی طرف ہے تو عامل اپنی بائیں طرف اور اگر بائیں طرف تکلیف ہے تو عامل اپنے دہنی طرف بدن پر مل لے اگر مریض سامنے ہے تو عامل متورم جگہ پر مَس کرے اگر مریض بار بار نہیں آ سکتا تو مٹی دم کر کے دیدے تاکہ مریض یا اس کے وارث بار بار دم شدہ مٹی مقام ورم پر لگا دیں۔ اگر دور دراز ہے تو عامل اپنے بدن پر حسب مذکور عمل کرے شفا کلی ہو گی۔

۳ پسلی کے واسطے یہ ترکیب ہو گی کہ کانا جس کو نرسل کہتے ہیں لے کر اس کے تین ٹکڑے کر لیں اور ان کو پسلی سے مس کرتا جاوے اور تین مرتبہ عمل ذیل پڑھے اور ان ٹکڑوں کو ناپ لے جس قدر بڑھ جاویں کاٹ لیں اسی طرح تین مرتبہ عمل کریں بڑھا ہوا حصہ قطع کرتے جاویں شفا کلی ہو گی۔

عمل یہ ہے۔ سورہ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں جتنی جگہ لفظ النّاس آئے اس کو تین مرتبہ پڑھیں مثلاً قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ناس، ناس، ناس

پڑھے اس سورۃ میں ناس چھ جگہ آتا ہے + اگر نرہ سل دستیاب ہو تو کوئی نرم لکڑی لے کر عمل کر سکتے ہیں۔ مجرب المجرب ہے۔

مفرور کی واپسی - یہ نقش معظم نہایت مجرب ہے۔

اس نقش کو بوقت ہویا ۷ بجے صبح بروز جمعرات لکھ کر رکھ لیں اور جب کوئی حاجتمند آوے تو نقش کے نیچے نام مفرور مع اسم والدہ مفرور لکھ کر گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص دم کر کے دیدیں تاکہ وہ نقش درخت انار کے ساتھ وہ لٹکا دیں انشاء اللہ مفرور جلد واپس آجائے گا۔

قل	ھو	اللہ	احد
اللہ	الصمد	لم	یلد
ولم	یو	لد	ولم
یکن	لہ	کفواً	احد

مرگی والے کیلئے مجرب نقش

اگر کوئی شخص مرگی میں مبتلا ہو اور معالجات سے مایوس ہو گیا ہو تو یہ نقش لکھ کر مریض کے گلے میں باندھ دیں انشاء اللہ آرام ہوگا۔

اذا جاء	نصر اللہ	والفتح	ورایت	الناس	یدخلون	فی دین	اللہ
نصر اللہ	والفتح	ورایت	الناس	یدخلون	فی دین	اللہ	افواجا
والفتح	ورایت	الناس	یدخلون	فی دین	اللہ	افواجا	فسبح
ورایت	الناس	یدخلون	فی دین	اللہ	افواجا	فسبح	بحمد
الناس	یدخلون	فی دین	اللہ	افواجا	فسبح	بحمد	ربک
یدخلون	فی دین	اللہ	افواجا	فسبح	بحمد	ربک	واستغفر
فی دین	اللہ	افواجا	فسبح	بحمد	ربک	واستغفر	انہ کان
اللہ	افواجا	فسبح	بحمد	ربک	واستغفر	انہ کان	توابا

ہر مایوس مریض کے لیے: اگر کوئی ایسی مرض میں مبتلا ہو جو لا علاج ہو چکی ہو اور مریض کے لیے صحت کی امید منقطع ہو چکی ہو تو نقش آب حیات بن کر شفا کاملہ بخشے گا۔ خدا کا نام لے کر سچے اعتقاد سے سچی چینی یا شیشے کے برتن پر زعفران سے لکھ کر اور تھوڑا سا شہد ڈال کر مریض کو چٹا دیں یہ نقش طلوع آفتاب کے وقت لکھیں خشک ہونے پر شہد ڈال کر چٹا دیں کلام خدا کا معجزہ دیکھیں۔

نقش معظم

۹۸۰	۲۹۰۰	۷۴
۲۹۰۰	۷۴	۹۸۰
۷۴	۹۸۰	۲۹۰۰

سوکھا مسان

یہ ایک موذی مرض ہے بچوں کے دشمن ہے۔ اس کا شافی تیر بہدف نقش تحریر ذیل ہے نقش پاکیزہ کاغذ پر لکھیں اور معطر کر کے بچے کے گلے میں باندھ دیں۔ انشاءاللہ چند روز میں شفا ہو گی۔

۳۱۵۵	۳۱۵۰	۳۱۵۷
۳۱۵۶	۳۱۵۴	۳۱۵۲
۳۱۵۱	۳۱۵۸	۳۱۵۳

مانع اسقاط حمل

آجکل ہزاروں عورتیں بچے ضائع کر بیٹھتی ہیں طرح طرح کے علاج معالجات کرنے پر بھی شفا نہیں ہوتی۔ آخری علاج کلام پاک سے کر کے شفا

۲۷	۳۰	۳۳	۲۰
۳۲	۲۱	۲۶	۳۱
۲۲	۳۵	۲۸	۲۵
۲۹	۲۴	۲۳	۳۴

یاالٰہی نقش مکرم لکھ کر عورت کمر میں باندھے۔ حمل قائم رہ کر پوری مدت کے بعد بچہ پیدا ہو گا۔


درد حیض

۳۲۷	۳۲۲	۳۳۰
۳۲۹	۳۲۶	۳۲۴
۳۲۳	۳۳۱	۳۲۵

اس قسم کی مریضہ کو یہ نقش شہد خالص یا مصری میں گھول کر پلائیں تین یوم میں انشاء اللہ آرام ہو گا۔ اور پھر یہ تکلیف نہ ہو گی۔

تعبیر خواب بذریعہ علم جفر

بذریعہ علم جفر تعبیر خواب معلوم کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا نام مع نام والدہ معلوم کر کے اس کے اعداد نکالو۔ اور جس ساعت میں تعبیر نکال رہے ہو۔ اس ساعت کے اعداد بھی اس میں شامل کر لو۔ غرض اس مجموعہ کو ۱۱ پر تقسیم کر لو۔ اگر ایک ۳-۵-۷-۸-۹ بچ رہیں۔ تو تعبیر بری ہے۔ اگر ۲-۴-۶-۱۰-۱۱ بچیں تو تعبیر نیک ہے۔



آخری عجیب عمل

ہر مرض - ہر دکھ - ہر غم کے لیے سریع الاثر اور نادرِ روزگار عمل تحریر کر کے کتاب کو ختم کرتا ہوں۔

آپ ایک سرکنڈا کانا - لیں اور اس کو چیر لیں نصف کر لیں لمبائی کے رُخ چیریں اور ایک بالشت ۲ انگل کی لمبائی رکھ کر مریض کے سامنے بیٹھ کر عمل پڑھنا شروع کریں - اگر مریض دُور ہو تو تصوّر کر کے پڑھیں -

اور عمل ہذا چار بار پڑھ کر مریض اور کانا پر پھونک ماردیں اور کانا کو مریض کے سرہانے رکھ دیں - ۳ گھنٹے کے بعد ملاحظہ کریں کانا لمبائی میں ضرور کچھ نہ کچھ بڑھ جائے گا - ایک بالشت ۲ انگل کی لمبائی رکھ کر باقی زائد کانا کو کاٹ دیں اور پھر بدستور سابق پڑھ کر دم کر کے رکھ دیں - جس قدر کانا کٹ جائے گا - اتنا ہی مرض گھٹ جائے گا - جب کانا بڑھنا رُک جائے تو سمجھیں شفائے کامل عطا ہو گئی ہے - ہاں اگر ابتداً ہی سے کانا نہ بڑھے اور پورا ایک بالشت ۲ انگل رہے تو یہ مریض کے لیے خطرناک علامت ہے - گویا شفایابی کی بہت کم امید ہے -

میں نے اس عمل کو بطور استخارہ بھی متعدد بار آزمایا ہے اگر کانا بڑھ جائے تو کام ہو جائے گا۔ اور اگر کانا نہ بڑھے تو کام ہرگز نہ ہو گا۔ بدستور سابق پڑھ کر اپنے کام کا ارادہ کر کے کانا پر دم کر دیں اور کانا کو کسی محفوظ مقام پر بحفاظت رکھ دیں۔ ۳ گھنٹے کے بعد دیکھ لیں۔ ایسے عملیات کتابوں میں نہیں ہوتے۔ سینوں میں ہوتے ہیں۔ آپ اس کی قدر کریں۔

عمل یہ ہے :۔

وضو کر کے اول و آخر ۱۱-۱۱ بار درود شریف

درمیان میں ۲ بار سورۃ والناس پڑھیں مگر اس طرح کہ جس جگہ ناس کا لفظ آئے ناس۔ ناس۔ ناس تین بار کہے۔ مثلاً

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاس۔ ناس۔ ناس۔ خناس۔ علیٰ ہذا القیاس

سپردم بتو مایۂ خویش را
تو دانی حساب کم و بیش را

شاد گیلانی

ننور کوٹ۔ شہر

جامع الاکاسیر
المعروف بہ
کشتہ جات نظیر

کامل پانچ حصے

مصنفہ

جناب مولوی نذیر احمد خان طبیب گنگوہی

☆ اس سے پیشتر رسالہ ہائے کشتہ جات دیگر کتب کثرت سے شائع ہو چکے ہیں مگر سب کے سب نامکمل سمعنا واطعنا کے مصداق ہیں کشتہ جات کے شائقین ہنوز بے بہرہ ہیں۔ مصنف نے ہر قسم کے کشتہ جات عرصہ دراز میں اس مرض میں سیکھنے اور بنانے اور تجربہ کیا ان کو ایک جا جمع کر دیے ہیں تاکہ عوام الناس فائدہ اٹھا کر دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔

☆ جامع الاکاسیر پانچ حصص پر مشتمل ہے۔

☆ حصہ اول کشتہ جات نظیر

☆ حصہ دوم کیمیائے نظیر

☆ حصہ سوم مجربات نظیر المعروف بہ قرابادین نظیر

☆ حصہ چہارم عملیات نظیر

☆ حصہ پنجم علاج العین نظیر

☆ جامع الاکاسیر کا کوئی حصہ قابل نہیں ہے۔ اس کتاب میں وہ نسخے درج ہیں جو حکیموں اور سنیاسیوں کے ہاں آج تک سینہ بسینہ چلے آ رہے تھے ہر قسم کے عملیات بزرگوں کے آزمودہ درج ہیں اور اجازت حاصل کی گئی ہے۔

☆ الگ الگ حصے جات دستیاب نہیں ہیں۔

پانچ حصص ایک جا مجلد قیمت/300 روپے

معجزات و عجائبات طب یونانی

المعروف سلف مجرنما

مصنف و مؤلف

ڈاکٹر شاد گیلانی

☆ اس کتاب میں طب یونانی کے وہ جواہر پارے ہیں جس کے مقابلے میں ایلوپیتھی میں ابھی تک کوئی دوائی ایجاد نہیں ہو سکی۔

☆ اس کتاب میں جو جواہر پارے ہیں۔ ایسے ایک ایک نسخہ کو اطبا ہزار کا دشوں سے حاصل کرتے ہیں برسوں خدمت کرنے کے بعد جب حاصل ہو جائے تو اپنے سینوں میں دفن کرتے ہیں وہ انمول خزانہ اس کتاب میں ہے۔ قیمت/60 روپے

ہومیوپیتھک

جیبی انسائیکلوپیڈیا

مصنف و مؤلف

ڈاکٹر شاد گیلانی

☆ ہومیوپیتھی "علامات" کا علاج ہے۔

☆ مصنف و مؤلف نے اپنے تجربات کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ہر طبیب ان سے فائدہ اٹھا سکے۔

☆ مختصر سائز رکھو پیا ہے۔

☆ یہ ذریعہ کو پیا ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے لئے بے حد مفید ہوگا۔

☆ محدود تعداد میں موجود ہے۔ قیمت/60 روپے

مجربات بوعلی سینا
و
لذات النساء

مصنف

جناب حکیم محمد عزیز حکیم حاذق

☆ یہ کتاب قانون شیخ الرئیس بوعلی سینا طب اکبر، زمرد اخضر، میزان طب، کفایہ منصوری، مخزن حکمت و دیگر کتب معتبرہ سے منتخب کر کے نکالی گئی ہے۔ قیمت/200

حکمت
کے
خفیہ راز

مصنف

جناب حکیم دیوان کاہن چند کپور پشاوریہ

☆ یہ کتاب میں معمولی امراض سے لے کر نہایت خطرناک بیماریوں کے نسخہ جات درج ہیں جو مصنف کتاب کی اپنی تمام زندگی میں بارہا تجربہ میں آ چکے ہیں۔ قیمت/60 روپے

حکمت
کے
مفید ٹوٹکے

مرتبہ

بابا عبدالکریم گجراتی

☆ حکمت کے آسمان پر چاند اور ستارے۔

☆ مفید ٹوٹکے مرتب کو پچیس برس کی سر توڑ کوشش کے بعد حاصل ہوئے۔ قیمت-/100

آسان بائیو کیمسٹری

مصنف و مؤلف

ڈاکٹر سلطان محمود چغتائی تلمیذ ڈاکٹر شاد گیلانی ہومیوپیتھ

☆ ہومیوپیتھک علاج کیلئے لاجواب کتاب قیمت/100

اکسیر اجملی

مرتبہ

بابا عبدالکریم گجراتی

☆ حکیم اعظم فخر حکمت جناب حکیم محمد اجمل خان صاحب کے بیاض میں سے چند نایاب تحفے قیمت/50

خط و کتابت اور منی آرڈر بھیجنے کا پتہ:- ملک سراج الدین اینڈ سنز' پبلشرز، 48/C لوئر مال، لاہور